

5468 - مسلمان اللہ تعالیٰ کے متعلق کیسا خیال کرے -

سوال

مسلمان کو اللہ تعالیٰ کے متعلق کیسا خیال کرنا چاہئے ؟

مجھے اس بات کا علم ہے کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھنا ممکن نہیں تو کیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو آدمی کی شکل و ہیئت کا خیال کروں یا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نور ہے ؟
اس مسئلہ کے متعلق آپ میرا تعاون فرمائیں اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے .

پسندیدہ جواب

الحمد لله.

اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہے فرمان کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے :

اللہ تعالیٰ کی مثل کوئی نہیں اور وہ سننے والا دیکھنے والا ہے تو اس اللہ تعالیٰ کی نہ تو کوئی مثل ہے اور نہ ہی کوئی شبیہ ہے اور نہ ہی اس کا کوئی ہمسر اور نہ شریک ہے - اور وہ اللہ عزوجل مخلوق کی مماثلت سے منزہ اور پاک ہے ، تو اللہ تعالیٰ کے متعلق ابن آدم کے ذہن میں جو بھی آتا ہے وہ اس سے بھی اعظم اور بڑھ کر ہے ، اور مخلوق کے لئے یہ ممکن ہی نہیں کہ وہ اللہ جل و علا کا احاطہ کر سکے اور اس کی صورت کا خیال بھی ذہن میں لا سکے -

اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے :

اور مخلوق کا علم اس پر حاوی نہیں ہو سکتا

اور پھر اصل میں مسلمان تو اس کا مکلف ہی نہیں کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تخیل لائے اور یا اس کا تصور کرے ، بلکہ اس پر واجب تو یہ ہے کہ وہ یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات علی اس طرح ہیں جس طرح کہ اس کی عظمت و جلال کے شایان شان اور اس کے لائق ہیں ان صفات میں اس کی کوئی مماثلت نہیں کر سکتا -

اور مسلمانوں کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا جا سکتا جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے :

آنکھیں اس کا ادراک نہیں کر سکتیں بلکہ اللہ تعالیٰ کو مومن لوگ آخرت میں میدان محشر کے اندر اور اسی طرح جنت

میں بھی دیکھیں گے -

حدیث میں وارد ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ میں نے نور دیکھا ، اور دوسری روایت میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نور کو کیسے دیکھ سکتا ہوں - صحیح مسلم -

اور یہ اللہ تعالیٰ کے اس قول کے موافق ہے جو کہ موسیٰ علیہ السلام کو کہا تھا اور اس کا ذکر سورۃ اعراف میں موجود ہے **لن ترانی** تو مجھے نہیں دیکھ سکتا " یعنی دنیا میں نہیں دیکھ سکتا -

تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے علاوہ کسی نے بھی اللہ تعالیٰ کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا ، توجہ روز قیامت میدان محشر میں مومن لوگ اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ کی عظمت و جلال کی وجہ سے سجدہ میں گر پڑیں گے ، اور اسی طرح جنت میں سب سے بڑی اور عظیم نعمت اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا جو کہ اہل جنت کو مطلقاً عطا کی جائے گی -

تو اس لئے میرے بھائی آپ اللہ تعالیٰ کو ان اسماء اور صفات سے پہچانیں جن کی خبر اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب قرآن کریم میں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے ، اور اپنے آپ کو اس چیز کی طرف نہ لے جائیں جس کے آپ مکلف ہی نہیں اور جس کی آپ میں طاقت نہیں ، اور وہ کام کریں جن کا اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا ہے ، اور آپ شیطانی وسوسوں کو چھوڑ دیں اللہ تعالیٰ آپ کو وہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس میں اس کی رضا ہو - آمین واللہ تعالیٰ اعلم .